

ZEUS | P2  
Optical Gaming Mouse

QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE



GAMDIAS

ZEUS | P2  
RGB

Optical Gaming Mouse



<English> <Español> <Deutsch>  
<Polski> <Français> <Svensk>  
<Italiano> <Português> <Русский>  
<한국어> <ภาษาไทย> <العربية>

Thank you for choosing ZEUS P2 optical gaming mouse by GAMDIAS™. The GAMDIAS™ ZEUS P2 optical gaming mouse employs premium micro-processor complemented by 16,000DPI precision-perfect optical sensor. Providing not only impeccable stability, the 8 Macro-Key design enables all combo execution without the need of driver installations. In addition, it offers ergonomics design with textured rubber side grips which provide unparalleled control and perfect facility.

#### System Requirements

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC with USB port
- Internet connection  
(for HERA software installation)


#### Package Contents

- GAMDIAS™ ZEUS P2 Optical Gaming Mouse
- Multi-language Quick Installation Guide

#### Hardware and Software Installation

1. Plug the GAMDIAS™ ZEUS P2 into your PCs via USB Port.
2. The "found new hardware" notice will appear, please following instruction to complete hardware installation.
3. Log onto the GAMDIAS™ website (<http://www.GAMDIAS.com>) to download the latest version of the HERA application software.
4. Start installing the GAMDIAS™ HERA software by following the on-screen instructions.

#### ZEUS P2 Default Settings



#### Registering Your GAMDIAS™ ZEUS P2 Optical Gaming Mouse

Please visit [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) for online product registration.

Gracias por elegir el ratón óptico para juegos ZEUS P2 de GAMDIAS™. El ratón óptico para juegos GAMDIAS™ ZEUS P2 utiliza un microprocesador de alta calidad que se complementa con un sensor óptico de 16,000 DPI que proporciona una perfecta precisión. Además de su impecable estabilidad, su diseño de 8 teclas de macro permite ejecutar todas las combinaciones de teclas sin la necesidad de instalar ningún controlador. Asimismo, ofrece un diseño ergonómico con agarres laterales de goma texturizados que proporcionan un control incomparable y una perfecta tactilidad.

#### Requisitos del sistema

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC con puerto USB
- Conexión a Internet  
(para instalación de software HERA)


#### Contenido del paquete

- Ratón óptico para juegos GAMDIAS™ ZEUS P2
- Guía de instalación rápida en varios idiomas

#### Instalar el hardware y el software

1. Enchufe su GAMDIAS™ ZEUS P2 en su PC a través de un puerto USB.
2. Aparecerá el aviso "Nuevo hardware encontrado". Siga las instrucciones para completar la instalación del hardware.
3. Inicie sesión en el sitio Web de GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) para descargar la versión más reciente del software de la aplicación HERA.
4. Comience a instalar el software GAMDIAS™ HERA siguiendo las instrucciones de la pantalla.

#### Configuración predeterminada de ZEUS P2



#### Registrar el ratón óptico juegos GAMDIAS™ ZEUS P2

Visite el sitio Web [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registrar el producto en línea.

Vielen Dank für den Kauf unserer optischen Gamingmaus GAMDIAS™ ZEUS P2. Die optische Gamingmaus GAMDIAS™ ZEUS P2 arbeitet mit einem modernen Mikroprozessor und einem erstklassigen optischen Sensor mit einer hochpräzisen Auflösung von 16.000 DPI. Neben höchster Zuverlässigkeit überzeugt die Maus auch mit acht Makrotasten für praktische Kombiaktionen ohne spezielle Treiber. Das durchdachte ergonomische Design mit griffigen, gummierten Seitenflächen gewährleistet auch in hektischen Spielsituationen unerreicht präzise Handhabung.

### Systemanforderungen

- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- PC mit USB-Port
- Internetverbindung  
(zur Installation der HERA-Software)


### Lieferumfang

- Optische Maus GAMDIAS™ ZEUS P2
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung

### Hardware- und Softwareinstallation

1. Bitte schließen Sie die GAMDIAS™ ZEUS P2 an einen USB-Port Ihres Computers an.
2. Sobald die „Neue Hardware gefunden“-Meldung erscheint befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Abschluss der Hardwareinstallation.
3. Besuchen Sie bitte die GAMDIAS™-Webseite (<http://www.GAMDIAS.com>) und laden Sie sich die aktuellste Version der HERA-Anwendungssoftware herunter.
4. Bitte installieren Sie die GAMDIAS™ HERA Software und folgen dabei den Bildschirmanweisungen.

### ZEUSP2 -Standardeinstellungen



### Registrieren der optischen Gaming-Maus GAMDIAS™ ZEUS P2.

Bitte besuchen Sie zur Online-Produktregistrierung [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com)



Dziękujemy za wybór myszy optycznej dla graczy ZEUS P2 firmy GAMDIAS™. Mysz optyczna dla graczy GAMDIAS™ ZEUS P2 jest wyposażona w wysokiej jakości mikroprocesor oraz zapewniającą doskonałą precyzję czujnik optyczny 16,000 DPI. Mysz charakteryzuje niezawodna stabilność, a jej 8 przycisków makro umożliwia wykonywanie wszystkich kombinacji bez konieczności instalacji sterownika. Ponadto jej ergonomiczna konstrukcja z teksturowanymi gumowymi uchwytami bocznymi zapewnia niespotykaną kontrolę i idealne dopasowanie do dłoni.

### Wymagania systemowe

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- Komputer PC z portem USB
- Połączenie z Internetem  
(do instalacji oprogramowania HERA)


### Zawartość opakowania

- Mysz optyczna dla graczy GAMDIAS™ ZEUS P2
- Wielojęzyczna skrócona instrukcja instalacji

### Instalacja sprzętu i oprogramowania

1. Podłącz mysz GAMDIAS™ ZEUS P2 do portu USB komputera PC.
2. Po pojawieniu się komunikatu „Znaleziono nowy sprzęt” wykonaj instrukcje, aby ukończyć instalację sprzętu.
3. Załóż się w witrynie GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>), aby pobrać najnowszą wersję aplikacji HERA.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć instalację oprogramowania GAMDIAS™ HERA.

### Ustawienia domyślne myszy ZEUS P2



### Rejestracja myszy optycznej dla graczy GAMDIAS™ ZEUS P2

Rejestrację produktu w trybie online należy wykonać w witrynie [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com).

Nous vous remercions d'avoir choisi la souris de jeu optique ZEUS P2 par GAMDIAS™. La souris de jeu optique GAMDIAS™ ZEUS P2 comprend un micro-processeur de pointe et un capteur optique 16,000 DPI de précision parfaite. Le design 8 touche-macro fournit une stabilité impeccable et permet toute excitation combinée sans avoir besoin d'installer des pilotes. En plus, il offre un design ergonomique avec prises latérales en caoutchouc granulé qui assurent un contrôle inégalé et une tactilité parfaite.

#### Configuration requise

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC avec port USB
- Connexion Internet  
(par installation du logiciel HERA)


#### Contenu de l'emballage

- Souris optique de jeu GAMDIAS™ ZEUS P2
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues

#### Installation matérielle et logicielle

1. Branchez la GAMDIAS™ ZEUS P2 sur votre PC via le port USB.
2. L'avertissement "Nouveau matériel détecté" apparaît, veuillez suivre les instructions ci-après pour terminer l'installation du matériel.
3. Connectez-vous au site Web GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) pour télécharger la dernière version du logiciel d'application HERA.
4. Commencez l'installation du logiciel GAMDIAS™ HERA en suivant les instructions à l'écran.

#### Paramètres par défaut de ZEUS P2



#### Enregistrement de votre souris optique de jeu GAMDIAS™ ZEUS P2

Veuillez visiter [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) pour enregistrer le produit en ligne.

Tack för att du valt GAMDIAS™ optiska spelmus ZEUS P2. GAMDIAS™ optiska spelmus ZEUS P2 använder en premium mikroprocessor som kompletteras av en optisk sensor med en utmärkt precision på 16,000 DPI. Utförandet med 8 makrotangenter erbjuder inte bara en oklanderlig stabilitet, utan aktiverar dessutom alla Combo-utföranden utan att behöva drivrutinsinstallationer. Dessutom erbjuder den en ergonomisk design med texturerade sidohandtag av gummi som erbjuder ojämförbar kontroll och en utmärkt känsla.

#### Systemkrav

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- Dator med USB-port
- Internetanslutning (för installation av programvaran HERA)


#### Paketinnehåll

- GAMDIAS™ ZEUS P2 optiska spelmus
- Flerspråkig snabbinstallationsguide

#### Installation av hårdvara och programvara

1. Anslut GAMDIAS™ ZEUS P2 till din dator via en USB-port.
2. Meddelandet "Ny maskinvara har hittats" kommer att visas, följ instruktionerna för att fullfölja maskinvaruinstallationen.
3. Logga in på GAMDIAS™ webbplats (<http://www.GAMDIAS.com>) för att hämta den senaste versionen av programvaran HERA.
4. Börja installera GAMDIAS™ programvara HERA genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### ZEUS P2 grundinställningar



#### Registrering av din GAMDIAS™ ZEUS P2 optiska spelmus

Besök [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) för produktregistrering online.

Grazie per aver scelto il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS P2. Il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS P2 monta un microprocessore di qualità associato ad un sensore ottico dalla precisione eccezionale con 16,000 DPI. Non solo offre un'impeccabile stabilità, ma grazie agli 8 tasti macro permette tutte le combinazioni senza necessità di installare driver. Inoltre ha un design ergonomico con impugnature laterali di gomma in rilievo che garantiscono un controllo senza precedenti e una precisione perfetta.

**Requisiti di sistema**


- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC con porta USB
- Connessione a Internet  
(per l'installazione del software HERA)

**Contenuto della confezione**

- Mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS P2
- Guida di installazione rapida multilingue

**Installazione hardware e software**

1. Collegare GAMDIAS™ ZEUS P2 al PC tramite la porta USB.
2. Quando appare la notifica "trovato nuovo hardware", seguire le istruzioni per completare l'installazione hardware.
3. Visitare il sito web di GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) per scaricare l'ultima versione del software dell'applicazione HERA.
4. Avviare l'installazione del software GAMDIAS™ HERA seguendo le istruzioni su schermo.

**Impostazioni predefinite di ZEUS P2****Come registrare il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS P2**

Visitare il sito [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) per registrare il prodotto online.

Obrigado por escolher o rato ótico para jogos ZEUS P2 da GAMDIAS™. O rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS P2 inclui um microprocessador de elevada qualidade complementado por um sensor ótico de alta precisão de 16,000 PPP. Oferecendo não só uma estabilidade impecável, o design com 8 teclas macro permite a execução de combinações de teclas sem a necessidade de instalação de controladores. Para além disso, oferece um design ergonómico com painéis laterais em borracha rugosa que proporcionam um controlo sem precedentes e tutilidade perfeita.

#### Requerimentos do Sistema

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC com porta USB
- Conexão de Internet  
(para instalação do software HERA)


#### Conteúdos da Embalagem

- Rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS P2
- Guia de Instalação Rápida Multilíngue

#### Instalação do Hardware e Software

1. Conecte o GAMDIAS™ ZEUS P2 em seus PCs pela Porta USB.
2. O aviso de "novo hardware encontrado" aparecerá, siga as instruções para completar a instalação do hardware.
3. Se registre no website GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) para baixar a última versão do software aplicativo HERA.
4. Instale o software GAMDIAS™ HERA seguindo as instruções no ecrã.

#### Configurações padrão ZEUS P2



#### Registrar o rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS P2

Visite [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registro do produto online.

Спасибо за ваш выбор оптической игровой мыши GAMDIAS™ ZEUS P2, в которую встроен премиальный оптический сенсор, обеспечивающий разрешение 16'000 DPI. Мышь ZEUS P2 отличается по отрясающей стабильностью, 8-ми -кнопочным эргономическим дизайном, резиновыми вставками по бокам и возможностью работы без установки драйверов.

**Системные требования**


- Windows® XP, Vista, 7, 8, 10
- Компьютер с портом USB
- Подключение к интернету  
( для установки ПО HERA)

**Комплект поставки**

- Игровая оптическая мышь GAMDIAS™ ZEUS P2
- Краткое руководство по установке на нескольких языках

**Установка оборудования и программного обеспечения**

1. Подключите мышь GAMDIAS™ ZEUS P2 к порту USB на компьютере.
2. Отобразится мастер « Найдено новое оборудование ». Выполните инструкции мастера для установки оборудования.
3. Перейдите на веб-сайт GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) для загрузки новейшей версии программного обеспечения HERA.
4. Установите программное обеспечение GAMDIAS™ HERA, следуя инструкциям на экране.

**Стандартные настройки мыши ZEUS P2****Регистрация игровой оптической мыши GAMDIAS™ ZEUS P2**

Для онлайн-регистрации данного изделия посетите веб-сайт [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com).

GAMDIAS™의 ZEUS P2 옵티컬 게이밍 마우스를 구매해주셔서 감사합니다. GAMDIAS™ ZUES P2 옵티컬 게이밍 마우스는 프리미엄 마이크로프로세서 기술에 16,000DPI의 완벽한 정확도의 옵티컬 센서를 갖춰 더욱 완벽해졌습니다. 8개의 매크로 키 디자인은 흠잡을데 없는 안정감뿐만 아니라 드라이버 설치 없이도 올 콤보를 달성할 수 있습니다. 또한, 고급스러운 인체공학적 디자인의 측면 러버 그립으로 비교불가한 컨트롤과 완벽한 그립감을 제공합니다.

### 시스템 요구 사항

- Windows® XP/Vista / 7 / 8 / 10
- USB 포트 포함 PC
- 인터넷 연결 (HERA 소프트웨어 설치용)


### 박스 내용물

- GAMDIAS™ ZEUS P2 광학 게이밍 마우스
- 다국어 빠른 설치 안내서

### 하드웨어 및 소프트웨어 설치

1. GAMDIAS™ ZEUS P2를 USB 포트를 사용하여 PC와 연결합니다.
2. "found new hardware (새 하드웨어 발견)" 알림이 표시되면 지침에 따라 하드웨어 설치를 완료합니다.
3. GAMDIAS™ 웹사이트 (<http://www.GAMDIAS.com>)에 로그인하여 HERA 애플리케이션 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드합니다.
4. 화면 안내에 따라 GAMDIAS™ HERA 소프트웨어 설치를 시작합니다.

### ZEUS P2 기본 설정



### GAMDIAS™ ZEUS P2 광학 게이밍 마우스 등록

[www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) 을 방문하여 제품을 등록하십시오.

ขอบคุณสำหรับการเลือกเมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล ZEUS P2 จาก

GAMDIAS™ ผลิตภัณฑ์เมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ ZEUS P2

ใช้ตัวประมวลผลขนาดเล็กระดับพรีเมียมผ่านเซนเซอร์ออปติคัลที่ให้ความละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบขนาด 16,000 DPI เมาส์ประเภทนี้สามารถให้ไม่ใช่แค่เพียงความเสถียรอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ด้วยการออกแบบปุ่มมาโคร 8 ปุ่มทำให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ นอกจากนี้ยังให้การออกแบบที่ไปตามหลักสรีรศาสตร์รวมที่จับด้านข้างทำงานจากง่ามมือไม่เรียบซึ่งให้การควบคุมและการสัมผัสที่นุ่มนวลอย่างไม่มีใครเทียบ

### ความต้องการด้านระบบ

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC ที่มีพอร์ต USB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
(สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ HERA)


### รายการสิ่งที่อยู่ในกล่อง

- เมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ ZEUS P2
- คู่มือการติดตั้งแบบหลายภาษา

### การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

1. เสียบ GAMDIAS™ ZEUS P2 เข้ากับเครื่อง PC ของคุณผ่านทางพอร์ต USB
2. คำแจ้งเตือน "พบฮาร์ดแวร์ใหม่" จะปรากฏขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อดำเนินการติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์
3. เข้าไปที่เว็บไซต์ GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน HERA เวอร์ชันล่าสุด
4. เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ GAMDIAS™ HERA โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ บนหน้าจอ

### การตั้งค่าเริ่มต้นเมาส์ ZEUS P2



การลงทะเบียนเมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ GAMDIAS™ ZEUS P2 ของคุณ  
โปรดไปที่เว็บไซต์ [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์



باعألألسوام فطوي. GAMDIAS™ نم ZEUS P2 ةئوضلل باعألألسوام رايتخا لعل مكل أركش  
قؤدرفوي يرصب رعشستسمب قفزملم زيمتملم قيقدللا جلاعلم GAMDIAS™ ZEUS P2 ةئوضلل  
نك ميم لب، بسجف ةبئاش هبوشت ال يذل تابثل رفوي ال ةصوب لكل ةطقن 16,000 ةئلثم  
جمارپ تيبثت للا ةجالحا لود درسلاوريرختللا تايلمع عيمج ذيفنت نم Macro-Key 8 ميمصت  
مكحمو ةيطاطم ةيبناج تاكسامب دوزم أچرم أميمصت مدقي هناف، كلذ للا ةفاضلا ابو. ليغشلتلا  
ةئلثم سمل ةساحو هل لئتم ال مكحت رفوي ام.

ماقنلا تابلطتم

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- USB ذفنمب رتويوبمك زاخ
- نتنرتنالاب لاصتال
- (HERA جم انرب تيبثتلا)


قمزحلا تاويوتحم

- GAMDIAS™ ZEUS P2 ةئوضلل باعألألسوام
- تاغللا ددعتم عيرسلا تيبثتلا ليلد

جماربل او ةزهجالا تيبثت

1. USB ذفنم ربع كب ةصاخلا رتويوبمكلا ةزهجأب GAMDIAS™ ZEUS P2 ليصوتب مق.
2. ةزهجالا تيبثت لامكال تاميلعلا عابتا يجرى، "found new hardware" ةطخالم رهطتس.
3. رادصا تحأ ليزنتل GAMDIAS™ (http://www.GAMDIAS.com) بيو عقوم للا لوخدلا ليجستب مق.
4. ةشاشلا لعل ةدوجوملا تاميلعلا عابتا لالخ نم GAMDIAS™ HERA جم انرب تيبثت يف ادبا.

ZEUS P2 لى ةيضارثفالا تاداعالا



كب صاخلا GAMDIAS™ ZEUS P2 ةئوضلل باعألألسوام ليجست  
نتنرتنالاب ربع جنتنملا ليجستل [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) بيولا عقوم ةراي يجرى.



**GAMDIAS**

G A M I N G   A R T   I N   M O T I O N